

# مشائخ احمد آباد

جس میں شہر کی تاسیس سے لے کر نویں صدی  
تک کے بزرگوں کے حالات مذکور ہیں

<http://knooz-e-dil.blogspot.com/>

تالیف

حضرت مولانا یوسف متالا صاحب مدنیو ضہم

azhar  
PUBLICATIONS



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بخدمت حضرت حافظ صغیر احمد صاحب مدنی

سیدی قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی  
 قدس سرہ کا علمی، عوامی ہر طرح کی تصانیف کے سلسلہ میں یہ معمول تھا کہ اپنے  
 معاصرین میں سے کسی کی نظر ثانی کو اس پر ضروری سمجھتے تھے چاہے وہ حضرت  
 کے شاگرد ہی کیوں نہ ہوں۔ اس پر عمل کا ارادہ جب میں نے مشائخ احمد آباد کے  
 سلسلہ میں کیا تو چونکہ یہ صدیوں پہلے کے اہل علم کے احوال تھے جن میں صوفیاء،  
 مدنی، سنی، شیعہ، ہندو، مسلمان، کھنڈ، سنی، شیعہ، ہندو، مسلمان، کھنڈ، سنی، شیعہ،  
 کی نظر سے یہ کتاب گزر جائے تو بہت اچھا ہوگا چنانچہ تصنیف بلکہ کتابت  
 کے بعد طباعت کو موقوف رکھا گیا یہاں تک کہ مدینہ طیبہ قیام کے دوران مفتی اعظم  
 حضرت مفتی محمود حسن صاحب عمرہ کے لیے تشریف لائے تو مفتی صاحب کے  
 وہاں قیام کے دوران احقر انہیں یہ کتاب سناتا رہا کیونکہ مفتی صاحب ان دنوں  
 لکھنے پڑھنے سے معذور تھے اور بحمد اللہ جلد اول معتد بہ حصہ سن کر حضرت  
 نے تشجیحی کلمات بھی فرمائے۔ مگر پھر بھی طباعت کی ہمت نہ ہوئی کہ کاش  
 کوئی صاحب علم بنظر اصلاح پوری کتاب دیکھ لیتا۔ اللہ کا کرم کہ مفکر اسلام  
 حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اڈکسفورڈ اسلامک سینٹر کی دعوت پر برطانیہ  
 تشریف لائے اور ہماری دعوت پر دارالعلوم ہولکھپ بری بھی تشریف لائے۔

اس سفر میں حضرت کے ساتھ پروفیسر خلیق احمد نظامی ڈائریکٹر شعبہ تاریخ علیگرہ  
 مسلم یونیورسٹی بھی تھے جو مشائخ چشت پر قدیم کتب کے مصنف تھے اور اس

نام کتاب \_\_\_\_\_ مشائخ احمد آباد

تالیف \_\_\_\_\_ حضرت مولانا محمد یوسف مٹالا خادم دارالعلوم

سن اشاعت \_\_\_\_\_ اول \_\_\_\_\_ ۱۴۱۴ھ مطابق ۱۹۹۳ء

سن اشاعت \_\_\_\_\_ دوم \_\_\_\_\_ ۱۴۳۲ھ مطابق ۲۰۱۱ء

موضوع \_\_\_\_\_ سوانح

صفحات \_\_\_\_\_ چار سو اسی

تعداد \_\_\_\_\_ ۱۱۰۰

کتابت \_\_\_\_\_ انظر الحسن قاسمی، بھاگلپوری

زیر اہتمام

ازہار  
PUBLICATIONS

ناشر \_\_\_\_\_ مکتبۃ المدین  
 الحداد کیت غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور  
 ۰۲۲-۳۷۲۳۸۰۱۳



# فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳	تقریباً	
۴	عرض مرتب	
۷	۱ قدم صحابہ کرام سے پہلے گجرات میں	
۱۲	۲ سلطنت گجرات	
۱۶	۳ زمین البلاد احمد آباد	
۱۹	۴ بانی احمد آباد، سلطان احمد شاہ	
۲۳	۵ احمد آباد	
۲۹	۶ مساجد	
۲۹	۷ پورہ جات	
۳۱	۸ چہار دیواری کی تعمیر	
۳۲	۹ پورہ جات کا تعارف	
۳۸	۱۰ تعمیرات	
۳۱	۱۱ اٹھانوں سے گنبد کی مسجد	
۳۱	۱۲ احمد آباد کی جامع مسجد	
۳۳	۱۳ سید میراں کی تعمیرات	
۳۳	۱۴ باغات	
۳۴	۱۵ دلکش باغات	
۳۶	۱۶ باغ قح	

<http://knooz-e-dil.blogspot.com/>



نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۷	جہانگیر بادشاہ کی مولفہ مرآۃ سکندری کے بلاغ کی میر	۴۹
۱۸	گلاب کی کاشت	۵۰
۱۹	جہانگیر کا تالاب کا کریہ کے کنارے قیام	۵۱
۲۰	اس تالاب کی ساخت	۵۲
۲۱	کارخانے	۵۳
۲۲	مبارک نام کا اثر	۵۴
۲۳	جہاز سازی	۵۹
۲۴	بہادر شاہی توپ	"
۲۵	بندوق	"
۲۶	تلوار	"
۲۷	احمد آباد کے مدارس	۶۰
۲۸	مدرسہ سیف خاں	"
۲۹	مدرسہ شیخ الاسلام	"
۳۰	مدرسہ سرخیز	۶۱
۳۱	مدرسہ وجیہ الدین	"
۳۲	مدرسہ عثمان پور	"
۳۳	ولی اللہ کا مدرسہ	۶۲
۳۴	دارالارشاد	"
۳۵	صنعتی مدارس	۶۳
۳۶	علمی مراکز اور کتب خانے	"

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۷	عثمان چوہدری کا کتب خانہ	۶۴
۳۸	خانقاہ سرخیز کا کتب خانہ	۶۴
۳۹	شاہ عالم کا کتب خانہ	۶۵
۴۰	شاہ جہاں کا کتب خانہ	۶۶
"	مدرسہ ہدایت بخش کا کتب خانہ	"
"	مدرسہ ولی اللہ کا کتب خانہ	"
۴۱	شیعہ بوہرون کا کتب خانہ	۶۷
"	احمد آباد کے محکمہ تفتاۃ کا کتب خانہ	"
۴۲	شیخ حنفیہ کا کتب خانہ	۶۸
"	اعمار خاں بھرائی کا کتب خانہ	"
۴۳	قاضی برہان الدین کا کتب خانہ	۶۹
"	مدرسہ شیخ الاسلام کا کتب خانہ	"
۴۴	بعض دیگر کتب خانے	۷۰
۴۵	ولی اللہ کا کتب خانہ	۷۱
"	کتب خانہ آصف خاں	"
۴۶	صحیح مسلم کا سب سے قدیم نسخہ سلطان محمود کے کتب خانہ میں	۷۲
۴۷	۱، نسخہ صاحب الجبوری	۷۳
۴۸	۲، نسخہ مغربیہ	۷۴
۴۹	۳، نسخہ حافظ اسمعیل اصفہانی	۷۵
"	۴، نسخہ حافظ عبد الغنی مقدسی	۷۶
"	۵، نسخہ مکیہ	۷۷



نمبر شمار	عنوان	سن	صفحہ
۷۹	شیخ سہار الدین	۱۱۹ھ / ۱۷۹۶ء	۱۰۸
۸۰	خسروہ خلافت		۱۱۰
۸۱	سفر گجرات		۱۱۱
۸۲	معمولات		۱۱۳
۸۳	سید صدر الدین راجو قال	۱۱۲۴ھ / ۱۷۱۱ء	۱۱۵
۸۴	سید تاج الدین		۱۱۷
۸۵	بابا اسحاق مغربی اور حضرت شیخ احمد کھٹوی سرگجھی "۱۷۶۳ھ"		۱۱۸
۸۶	شیخ احمد کھٹو ملقب بہ گنج بخش		۱۱۹
۸۷	سفر حج		۱۲۰
۸۸	حجاز سے واپسی		۱۲۲
۸۹	مسجد خانجہاں میں		"
۹۰	تیمور کا حملہ		۱۲۵
۹۱	سفر سمرقند		"
۹۲	سلاطین سے تعلقات		۱۲۹
۹۳	شیخ احمد کھٹو کی سوانح		"
۹۴	وصال		۱۳۵
۹۵	گجراتیوں کی مرغوب غذا کھچھڑی		۱۳۷
۹۶	عرف بابو کا قریبی استعمال		"

نمبر شمار	عنوان	سن	صفحہ
۵۸	سننے کے سرورق پر حرفی تلخیصیں اور ہمیں ثبت ہیں		۷۶
۵۹	اردو اور گجرات		۷۸
۶۰	دکن پر انگریز گجرات		۸۰
۶۱	قدیم اردو فقرے		۸۲
۶۲	جہانگیر کی اردو ترجمہ کی فرمائش		۸۵
۶۳	اہلسنت کا احمدآباد		۸۶
۶۴	علماء و مشائخ کی قدر دانی		۸۷
۶۵	موسیقی		"
۶۶	سادات احمدآباد		۸۸
۶۷	احمدآباد کی آخری جھلک		۹۰
۶۸	دولت		۹۱
۶۹	مغلوں کے ہاتھوں بربادی		۹۲
۷۰	وہ تاریخی کتب جو گجرات پر لکھی گئیں		۹۳
۷۱	حضرت شاہ شیردانی چشتی	۱۷۴۹ھ	۹۵
۷۲	شیخ علامہ کمال الدین قدس سرہ	۱۷۵۶ھ	۹۶
۷۳	شیخ رضی الدین عثمانی گنج علم	۱۷۶۸ھ	۹۷
۷۴	صاحبزادہ جمال الدین خنداں رو	۱۷۷۵ھ	۹۸
۷۵	سلسلہ راقم الحروف بمخدوم جہانیاں		۹۹
۷۶	حضرت مخدوم جہانیاں جہانگشت	۱۷۸۵ھ	۱۰۰
۷۷	سیر و سیاحت		۱۰۱
۷۸	مخدوم جہانیاں کا لقب		۱۰۲



نمبر شمار	عنوان	سن	صفحہ
۹۸	جہانگیر بادشاہ کی شیخ احمد کھٹو کے مزار پر ماضی		۱۳۷
۹۹	آپ کا مدرسہ		۱۳۸
۱۰۰	آپ کا کتب خانہ	"	"
۱۰۱	شیخ کھٹو کی سلطان گراور پیر گرجھی		۱۴۱
۱۰۲	مخدوم شیخ صلاح الدین		۱۴۲
۱۰۳	غوث اور شیخ حسن فقیہ		۱۴۷
۱۰۴	ابوالبرکات سراج الدین سید محمد	"	"
۱۰۵	شاہ عالم کا تکاؤ		۱۴۵
۱۰۶	سلاطین کے تعلقات		۱۴۶
۱۰۷	ادصاف و کمالات	"	"
۱۰۸	شاہ عالم کا لقب		۱۴۷
۱۰۹	جہانگیر کی شاہ عالم کے مزار پر فاتحہ خوانی		۱۵۰
۱۱۰	شاہ عالم کا فیض احمد آباد سے بہارت تک		۱۵۱
۱۱۱	مدرسہ شاہ عالم		۱۵۲
۱۱۲	شاہ عالم کا کتب خانہ	"	"
۱۱۳	حلیہ اور زبان		۱۵۳
۱۱۴	شاہ عالم کا خاندان اور اسکی متعلقہ عمارتیں		۱۵۵
۱۱۵	شیخ محمد		۱۵۶
۱۱۶	شاہ محمد راجو		۱۵۷
۱۱۷	سید محمد شاہ عالم کے پوتے	"	"

نمبر شمار	عنوان	سن	صفحہ
۱۱۸	میاں قطب الدین		۱۵۹
۱۱۹	شاہ بھیکن		۱۶۰
۱۲۰	سید محمد مقبول عالم		"
۱۲۱	ملک عبداللطیف داور الملک	م ۸۸۹ / ۱۲۸۲ھ	۱۶۱
۱۲۲	شیخ الاسلام خواجہ احمد بن دوسن	" ۸۸۵ / ۱۲۸۰ھ	۱۶۳
۱۲۳	حضرت مولانا محمد صدیق	" ۸۷۰ / ۱۲۶۵ھ	۱۶۴
۱۲۴	ملک محمد اختیار اور شیخ کبیر الدین		۱۶۵
۱۲۵	سید محمد بن محمد	م ۸۸۲ / ۱۲۷۷ھ	"
۱۲۶	قاضی سید اسماعیل اصفہانی	" ۸۶۵ / ۱۲۶۱ھ	۱۶۰
۱۲۷	مولانا صدر جہاں حسام الدین		۱۶۲
۱۲۸	صدر جہاں کا مدرسہ		۱۶۷
۱۲۹	شیخ احمد	" ۸۹۰ھ	۱۶۸
۱۳۰	سید جلال الدین ابو محمد ماہ عالم	" ۱۰۰۳ھ	۱۶۹
۱۳۱	سید جعفر بدر عالم		۱۸۰
۱۳۲	ابوالمجد محمد بن جعفر محبوب عالم	" ۱۱۱۱ھ	۱۸۱
۱۳۳	تفسیر شاہیہ		۱۸۲
۱۳۴	سید جلال حمید عالم	" ۱۱۰۴ھ	"
۱۳۵	جعفر حمید عالم	" ۱۱۰۹ھ	۱۸۳



نمبر شمار	عنوان	سن	صفحہ
۱۳۶	سید محمد محمود عالم	۱۱۴۹ھ	۱۸۳
۱۳۷	سید محمد مراد	"	۱۸۳
۱۳۸	شیخ نور الدین	۱۱۵۵ھ / ۱۶۴۲ء	"
۱۳۹	شیخ نور الدین کادرسہ	"	۱۸۸
۱۴۰	کتب خانہ مدرسہ ہدایت بخش	"	۱۹۱
۱۴۱	نور العرفان	"	"
۱۴۲	مدرسہ ہدایت بخش کامطب	"	"
۱۴۳	بہاؤ الدین ابن نور الدین	"	"
۱۴۴	شیخ محمد صالح عرف پیر بابا ابن نور الدین	"	۱۹۱
۱۴۵	قاضی محمد کن الحق خاں بن نور الدین	"	۱۹۳
۱۴۶	شیخ فخر الدین ابن نور الدین	"	"
۱۴۷	قاضی شمس الدین شیبانی	۸۰۹ھ	"
۱۴۸	شیخ علم الدین	۸۰۹ھ	۱۹۲
۱۴۹	شیخ محمد بن ابوبکر دامینی	۸۲۴ھ	۱۹۵
۱۵۰	لقمانیف	"	۱۹۶
۱۵۱	تعلیق للمصایح ابواب الجامع الصیح	"	۲۰۱
۱۵۲	ابی فراس بن حمدان کے چند اشعار	"	"
۱۵۳	علامہ بدر الدین دامینی کے چند اشعار	"	۲۰۲
۱۵۴	شیخ غوث الدین	۱۲ صفر ۸۳۵ھ	۲۰۶
۱۵۵	ملا جعفر	۱۲ صفر ۸۲۶ھ	"

نمبر شمار	عنوان	سن	صفحہ
۱۵۶	سید محمد خدا بخش	۵ جمادی الثانیہ ۸۴۴ھ	۲۰۷
۱۵۷	شیخ حاجی رجب	"	۲۰۸
۱۵۸	شیخ عزیز اللہ مندوی	۲۲ صفر ۸۵۲ھ	"
۱۵۹	شاہ موسیٰ سہاگ	۸۵۳ھ	۲۰۹
۱۶۰	شیخ کبیر الدین ناگوری	۱۴ ذیقعدہ ۸۳۵ھ / ۸۵۶ھ	۲۱۱
۱۶۱	قطعہ تاریخ	"	۲۱۲
۱۶۲	شیخ کمال الدین کرمانی	۸۶۵ھ	۲۱۳
۱۶۳	شیخ حسن بن محمد اساولی	۱۳ شوال ۸۴۷ھ	۲۱۴
۱۶۴	شیخ خوند کاری	"	"
۱۶۵	شیخ خوند میر	۱۰ ربیع الثانی ۸۴۷ھ	۲۱۵
۱۶۶	سید یعقوب چشتی	"	۲۱۹
۱۶۷	شیخ محمود بن عبداللہ بنجاری	۸۸۰ھ	۲۲۰
۱۶۸	شاہ جلال الدین	۸۸۱ھ	۲۲۱
۱۶۹	شیخ احمد بن برہان الدین	۲۲ ربیع الثانی ۸۸۲ھ	۲۲۲
۱۷۰	مخدوم العالم محمد بن اسمعیل بن ابوالفکام	"	۲۲۳
۱۷۱	بن ابوجعفر بن ابویوسف بن یعقوب بن زوالی	۱۳ جمادی الاولیٰ ۸۸۲ھ	"
۱۷۲	مخدوم بن برہان الدین	۸۹۰ھ	۲۲۴
۱۷۳	سید غوث الدین بغدادی قادری	۲۲ صفر ۸۹۵ھ	"
۱۷۴	حضرت شیخ محمود راجن بن علیم الدین عمری	۹۰۰ھ	۲۲۶
۱۷۵	شیخ محمد فلاوہ قدس سرہ	۹۰۰ھ	۲۲۷



نمبر شمار	عنوان	سن	صفحہ
۱۶۶	شیخ رزق اللہ	۲۰۲	۲۲۹
۱۶۷	شیخ سعد اللہ	"	۲۳۰
۱۶۸	خواجہ حسین ناگوری	"	۲۳۱
۱۶۹	مولف تاریخ منظر شاہی	"	۲۳۲
۱۷۰	شیخ یوسف	۱۸۲۹ھ	۲۳۵
۱۷۱	شیخ قاسم بن داؤد	"	"
۱۷۲	قطب عالم سید برہان الدین ابو محمد	"	۲۳۶
۱۷۳	عبد اللہ بخاری	"	"
۱۷۴	سید شرف الدین مشہدی سے ملاقات	"	۲۳۸
۱۷۵	سید گیسو دراز سے ملاقات	"	"
۱۷۶	سلاطین سے تعلقات	"	"
۱۷۷	قطب العالم کی زبان	"	۲۴۰
۱۷۸	حضرت شاہ عالم	"	۲۴۲
۱۷۹	مولانا سید جیو	"	۲۴۲
۱۸۰	ابن قطب عالم	"	۲۴۲
۱۹۱	شیخ محمد عثمان الملقب بربیع برہانی	"	۲۴۶
۱۹۲	عثمان پورہ کاکب خانہ	"	۲۴۸
۱۹۳	سوز	۱۲۳ھ	۲۵۲
۱۹۴	شیخ محمد عبداللہ حسینی بخاری	"	۲۵۳

نمبر شمار	عنوان	سن	صفحہ
۱۹۵	مخدوم شیخ محمود دریا نوش	"	۲۵۳
۱۹۶	شیخ عبداللطیف	"	۲۵۴
۱۹۷	شیخ سراج خلیفہ قطب عالم	"	۲۵۶
۱۹۸	سید محمد زاہد بن قطب عالم بخاری	"	۲۵۸
۱۹۹	شاہ محمد امین	"	۲۶۰
۲۰۰	مصطفیٰ	"	۲۶۱
۲۰۱	سید جعفر شیرازی	"	"
۲۰۲	شیخ احمد بن سید جعفر شیرازی	۹۲۲ھ	۲۶۲
۲۰۳	شاہ محمد زاہد بن قطب عالم بخاری	"	"
۲۰۴	ملک شرف الدین شاہ شبلی	"	۲۶۴
۲۰۵	شاہ حماد ابن قاضی محمد	"	۲۶۶
۲۰۶	علامہ وجیہ الدین علوی	"	۲۷۱
۲۰۷	شیوخ سے تعلق	"	۲۷۲
۲۰۸	شاہ محمد غوث نے حلقہ ارادت میں آئینہ کاسب	"	۲۷۳
۲۰۹	اوصاف و کمالات	"	۲۷۶
۲۱۰	مدیر کا قیام	"	"
۲۱۱	زبد وقتاعت	"	۲۷۷
۲۱۲	کرامات	"	"
۲۱۳	تلامذہ	"	۲۷۹
۲۱۴	ملفوظات حضرت وجیہ الدین	"	"



نمبر شمار	عنوان	سن	صفحہ
۲۵۶	محققین کی راتے		۳۳۶
۲۵۷	مریدین		۳۳۷
۲۵۸	تصانیف		۳۳۹
۲۵۹	وفات		"
۲۶۰	حضرت شاہ محمد عوث گوالیاری کے خلفاء کرام		۳۳۳
۲۶۱	مرزا شیخ بہلول		۳۳۴
۲۶۲	شیخ نور الدین ضیاء اللہ	۱۰۰۶ھ	۳۳۵
۲۶۳	شیخ عبداللہ گوالیاری	۱۰۲۱ھ	۳۳۸
۲۶۴	شیخ صالح بن محمد		"
۲۶۵	شیخ اولیس بن محمد گوالیاری		۳۳۹
۲۶۶	شیخ علی شیر بنگالی	۹۷۰ھ	"
۲۶۷	شیخ لشکر محمد عارف قدس سرہ	۹۹۳ھ	۳۵۱
۲۶۸	شیخ طاہر محمد سندھی	۱۰۰۴ھ	۳۵۶
۲۶۹	تعلیم		"
۲۷۰	خاندان کی ذمہ داری		"
۲۷۱	احمد آباد میں آمد		۳۵۷
۲۷۲	حضرت عوث گوالیاری سے ارادت		"
۲۷۳	برار میں آمد		۳۵۸
۲۷۴	برہان پور میں قیام		۳۵۹
۲۷۵	تصانیف		"
۲۷۶	تفسیر مجمع البحار		۲۷۶
۲۷۷	شیخ سراج محمد بن ابی	۱۰۱۰ھ	۲۷۷
۲۷۸	شیخ برہان الدین	۹۸۵ھ	۲۷۸
۲۷۹	سید حسین بن سید محمد ترمذی	۹۹۲ھ	"
۲۸۰	شیخ ودود اللہ مالوی	۹۹۳ھ	۲۸۰
۲۸۱	شیخ داؤد محمد ندوی		۲۸۱
۲۸۲	شیخ عزیز اللہ متوکل	۹۱۲ھ	۲۸۲
۲۸۳	محدث شیخ علی متقی صاحب کنز العمال	۹۷۵ھ	۲۸۳
۲۸۴	کنز العمال		"
۲۸۵	ابن حجر اور علی متقی		۲۸۵
۲۸۶	شیخ علی متقی گجرات میں		۲۸۶
۲۸۷	دعوتِ دزیر پر بشر الط		۲۸۷
۲۸۸	ذوقِ علم		۲۸۸
۲۸۹	گجرات میں دوسری آمد		۲۸۹
۲۹۰	بشارتِ نبوی		۲۹۰
۲۹۱	علی متقی علماء گجرات کی نظر میں		۲۹۱
۲۹۲	علامہ شعرانی شیخ علی متقی کی خانقاہ میں		۲۹۲
۲۹۳	محدث عبدالرحمن دہلوی کی استدعا		۲۹۳
۲۹۴	تحمل مزاجی		۲۹۴
۲۹۵	کثرتِ عبادت		۲۹۵



نمبر شمار	عنوان	سن	صفحہ
۳۳۶	ملاحمد مومن		۲۴۱
۳۳۷	ملا عبدالباقی مصنف مآثر رحیمی	۱۲۲۳ھ	"
۳۳۸	مولانا شکیب بن ظہیر الدین عبداللہ امای اصفہانی	۱۲۲۳ھ	۲۴۳
۳۳۹	ملا خوشحال		۲۴۴
۳۴۰	مولانا شتابی جنائری		۲۴۵
۳۴۱	مولانا کمال الدین حسبی		۲۴۶
۳۴۲	حکیم روح اللہ		۲۴۸
۳۴۳	مولانا مقصود علی تبریزی		۲۵۰
۳۴۴	میر محمد ہاشم قصہ خواں		۲۵۱
۳۴۵	مولانا مشرقی		۲۵۲
۳۴۶	میر دوستی سمقندی		"
۳۴۷	مولانا نادمی		۲۵۳
۳۴۸	میر محمد یوسف طبعی		"
۳۴۹	مولانا دامق بلخی		۲۵۴
۳۵۰	مولانا نصیری		۲۵۵
۳۵۱	غازی خاں بدخشی		"
۳۵۲	ابراہیم حسین دیر		"
۳۵۳	حکیم مشہدی		۲۵۶
۳۵۴	مولانا شعری		"
۳۵۵	مولانا حیدری		۲۵۷


نمبر شمار	عنوان	سن	صفحہ
۳۵۶	مولانا صیدی		۲۵۸
۳۵۷	مولانا نسبتی		۲۵۹
۳۵۸	میر عہدی		"
۳۵۹	شاہ نظر بیگ اصفہانی افشاری		"
۳۶۰	آقا جلال		۲۶۰
۳۶۱	ملا خزینی		"
۳۶۲	مولانا محمود		۲۶۱





# مشائخ احمد آباد

جس میں شہر کی تاسیس سے لے کر نویں صدی  
تک کے بزرگوں کے حالات مذکور ہیں



<http://knooz-e-dil.blogspot.com/>